

171332- کیا پرورش کرنے والی عورت کے سفر کرنے سے حق پرورش ساقط ہو جاتا ہے؟

سوال

کیا پرورش کرنے والی ماں اپنے تین اور چھ سال کے بچوں کو باپ کی اجازت کے بغیر لے کر دو حالتوں میں سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟

پہلی حالت :

وہ اپنے خاوند کے نکاح میں ہو یعنی اس کی بیوی ہے

دوسری حالت :

طلاق کی حالت میں : یہ علم میں رہے کہ پرورش کرنے والی عورت بچوں کو باپ کے شہر سے اپنے میکے دوسرے شہر یا دیہات میں لے جانا چاہتی ہے جو چھ سو کلومیٹر دور ہے عورت کا نکاح وہیں ہوا تھا، لیکن یہ طے ہوا تھا کہ شہر میں جہاں خاوند کا گھر ہے منتقل ہو جائیگی، لہذا عورت کے میکے والوں نے بیوی کو خاوند کے گھر پہنچایا اور رخصتی وہیں ہوئی، اور شادی بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق ہوئی تھی۔

کیا یہ سفر حق پرورش کو ساقط کر دے گا کہ حق پرورش ماں سے منتقل ہو کر باپ کو مل جائیگی؟

پسندیدہ جواب

اول :

چھوٹا بچہ جو تمیز نہیں کر سکتا کی پرورش کا ماں کو زیادہ حق ہے، جب تک وہ آگے شادی نہیں کرتی، یا پھر بچے کی پرورش میں کوئی اور مانع حائل نہ ہو جائے۔

مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر)

(91862) اور)

(43476) کے جوابات کا مطالعہ ضرور

کریں۔

اگر ماں بچے کے نکاح زوجیت میں ہو تو
ماں پر واجب ہے کہ بچے کو باپ کے مسکن میں رکھے۔

اور اگر وہ زوجیت میں نہیں تو جمہور
فقہاء نے شرط رکھی ہے کہ بچے کی پرورش باپ کے شہر اور علاقے میں ہی ہونی چاہیے۔

الموسوۃ الفقیہۃ الکویتیۃ میں درج
ہے :

”اگر بچے کی پرورش کرنے والی عورت
بچے کا ماں اور اس کے باپ کی زوجیت میں ہو تو پرورش کی جگہ وہ مسکن ہے جہاں بچے کا
باپ رہتا ہے، یا پھر اگر ابھی وہ طلاق رجعی کی عدت میں ہے یا بانن ہو چکی ہے تو بھی
دوران عدت اسی مسکن میں پرورش کریگی۔“

کیونکہ بیوی کی نگرانی لازمی ہے، اور
بیوی کے لیے خاوند کے ساتھ رہنا لازم ہے، اور اسی طرح عدت والی مطلقہ عورت کے لیے
بھی خاوند کی رہائش میں ہی عدت گزارنی لازم ہے چاہے وہ بچے کے ساتھ ہو یا بغیر بچے
کے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

”ختم انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو،
اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کوئی واضح فحاشی کا کام کریں۔“

اور جب عدت ختم ہو جائے تو بچے کی پرورش
کی جگہ وہی شہر اور علاقہ ہے جہاں بچے کا باپ یا اس کا ولی رہتا ہے اسی طرح اگر بچے
کی پرورش کرنے والی ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت ہو تو بھی اسے اسی علاقے میں پرورش
کرنا ہوگی کیونکہ باپ کو اپنا بچہ دیکھنے اور اس سے ملنے اور اس کی تربیت کی نگرانی
کام حق حاصل ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بچہ باپ یا ولی کے علاقے میں ہی
رہتا ہو۔

مذہب اربعہ کے مابین یہ قدر مشترک
ہے، اور احناف نے اسی کی صراحت بھی کی ہے، اور دوسرے مذاہب کی عبارات بھی اسی پر
دلالت کرتی ہیں ”

دیکھیں: الموسوعۃ الفقهیۃ الكويتیۃ)

(309308/17)

فرض کریں کہ اگر ماں اور باپ دونوں کا ایک شہر میں اکٹھا ہونا مشکل ہو اور کسی ایک کسی دوسرے شہر میں منتقل ہونا متعین ہو جائے تو جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اس حالت میں ماں کا حق پرورش ساقط ہو جائیگا، اور باپ کو حق پرورش حاصل ہوگا چاہے منتقل ہونے والا باپ ہو یا ماں۔

الموسوعۃ الفقهیۃ الكويتیۃ میں درج

ہے:

”پرورش کرنے والے یا بچے کے ولی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے مسئلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے جسے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:

جمہور فقہاء مالکیہ شافعیہ اور حنابلہ

پرورش کرنے والے یا بچے کے ولی کے مابین فرق کرتے ہیں کہ تجارت اور زیارت کے سفر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ رہائش اختیار کرنے کے سفر میں فرق ہوگا۔

اگر تو ولی یا بچے کی پرورش کرنے کا

سفر دوسری جگہ منتقل ہونے اور رہائش اختیار کرنے کے لیے ہو تو اس حالت میں ماں کا حق پرورش ساقط ہو جائیگا، اور منتقل ہو کر دوسرے حقدار کو مل جائیگا، لیکن شرط یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے لیے راستہ پر امن ہو اور جہاں منتقل کیا جا رہا ہے وہ بھی مامون ہو، بچے کی پرورش کا باپ زیادہ حقدار ہے چاہے وہ مقیم ہو یا منتقل ہونے والا، کیونکہ عادتاً باپ ہی بچے کی تربیت کرتا اور اسے ادب سکھاتا ہے، اور اپنے نسب کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے جب بچہ اپنے باپ کے شہر میں نہیں ہوگا تو وہ ضائع ہو جائیگا۔

لیکن حنابلہ نے یہ قید لگائی ہے کہ

باپ کو اولیت اس صورت میں حاصل ہوگی جب ماں کو ضرر نہ ہوتا ہو اور بچہ ماں سے چھینا نہ جائے، اس لیے اگر باپ ایسا کرنا چاہے تو اس کی بات نہیں مانی جائیگی، بلکہ بچے کی مصلحت مد نظر رکھی جائیگی۔

اور اگر ماں بھی بچے کے ساتھ سفر کرتی ہے تو بچہ اس ماں کی پرورش میں ہی رہے گا...

اور اگر سفر تجارتی یا کسی کوٹنے کے لیے ہو تو بچہ دونوں میں سے مقیم کے پاس رہے گا حتیٰ کہ مسافر واپس آجائے اس میں لے یا تھوڑے سفر کی کوئی قید نہیں بلکہ برابر ہے، اسی طرح اگر سفر منتقل ہونے کے لیے ہو اور سفر بھی پرخطر ہو تو بچہ مقیم کے ساتھ رہے گا...

مالکی حضرات کے ہاں یہ ہے کہ اگر خاوند اور بیوی میں سے کوئی ایک یعنی پرورش کرنے والی یا بچے کا ولی تجارتی سفر یا ملاقات و زیارت کے لیے سفر پر جائے تو ماں کا حق پرورش ساقط نہیں ہوگا، اگر سفر پر جائے تو وہ ساتھ لے کر جائیگی، اور اگر باپ سفر پر گیا ہو تو ماں کے پاس رہے گا۔

لیکن احناف کہتے ہیں کہ: بچے کی پرورش کرنے والی ماں کے لیے بچے کے باپ کی زوجیت میں ہوتے ہوئے یا عدت میں کسی دوسرے شہر میں جانا جائز نہیں خاوند کو اسے روکنے کا حق حاصل ہے۔

لیکن اگر اس کی عدت گزر چکی ہو تو پرورش والے بچے کو لے کر درج ذیل حالتوں میں دوسرے شہر لے جانا جائز ہے:

1 جب کسی قریبی علاقے اور شہر میں رہے جہاں باپ اپنے بچے کو دیکھ کر دن میں ہی واپس آسکتا ہو اور وہ علاقہ باپ کے علاقے سے کم تر نہ ہو کہ بچے کی اخلاق پر اثر انداز ہو۔

2 جب کسی دور والے علاقے میں جائے تو درج ذیل شروط پائی جاتی ہوں:
اجہاں گئی ہے وہ اس کا وطن ہو۔

ب خاوند نے بیوی سے نکاح اس علاقے میں کیا ہو۔

ج اگر خاوند مسلمان یا ذمی ہو تو جہاں عورت منتقل ہوئی ہے وہ علاقہ دار الحرب نہ ہو...

یہ اس صورت میں ہے جب بچے کی تربیت کرنے والی عورت بچے کی ماں ہو، اور اگر ماں نہیں بلکہ کوئی دوسری عورت ہے تو وہ بچے کو باپ کی اجازت کے بغیر نہیں لے جاسکتی کیونکہ ان کے مابین عقد نکاح نہیں ہے۔

اخلاف کی رائے یہ ہے کہ جب تک اس کا حق پرورش قائم ہے چھوٹے بچے کو حق پرورش والی عورتوں میں سے ماں کی رضامندی کے بغیر بچے کا باپ یا ولی کہیں اور منتقل نہیں کر سکتا، اور منتقل ہونے سے حق پرورش ساقط نہیں ہوگا، چاہے منتقل ہونے والی جگہ قریب ہو یا بعید ”انتہی

الموسوعة الفقهية الكويتية (17/

.(311308)

مزید تفصیل کے لیے آپ ”المغنی ابن قدامة (243242) کا مطالعہ ضرور کریں۔

شافعیہ کا مذہب وہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے اسے اوپر کی سطور میں بیان کیا جا چکا ہے۔

شیخ زکریا الانصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”فصل: اگر (دونوں میں سے کوئی ضرورت کی بنا پر سفر کرے) مثلاً حج یا تجارت یا سیر و تفریح کے لیے تو تمیز کرنے والے غیر ممیز بچے کے لیے مسافر کے واپس آنے تک (والد اولیٰ ہے) چاہے خطرہ کی بنا پر سفر کی مدت طویل بھی ہو لیکن واپس آنے کی امید موجود رہے تو۔

جی ہاں اگر مقیم ماں ہو اور بچے کا اس کے ساتھ رہنا خرابی کا باعث ہو یا مصلحت ضائع ہوتی ہو، مثلاً بچے کو قرآن کی تعلیم دلوارا ہو، یا پھر کوئی فن سکھا رہا ہو اور وہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہوں اور باپ کا کوئی قائم مقام نہیں، تو باپ کو سفر کرنے دیا جائیگا خاص کر جب بچے نے والد کو اختیار کیا ہو تو ”زرکشی وغیرہ نے یہی ذکر کیا ہے۔

یا پھر نماز قصر کی مسافت سے بھی قلیل مسافت کا سفر ہو تو باپ زیادہ اولیٰ ہے، اور اگر مسافر خود ہوں نسب کی حفاظت اور

ادب کی مصلحت و تعلیم خاطر اور بچے پر خرچ کرنے کی سہولت کے لیے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر اس کے مقصد اور راستے میں خطرہ نہ ہو، لیکن اگر خطرہ ہو مثلاً حملہ وغیرہ کا خطرہ ہو تو پھر مقیم اولیٰ ہے ”انتہی

دیکھیں: اسنی المطالب (451/3)

اور البیان شرح المصنوب (291/11).

لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے باپ کی طرف حق پرورش منتقل ہونے کو مقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ منتقل کرنے میں ضرر کا مقصد نہ رکھتا ہو، لیکن اگر وہ ضرر و نقصان کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر اسے اپنی جانب حق پرورش منتقل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

سوم:

جمور اہل نے ماں کو حق پرورش کا

استحقاق دینے میں دونوں کا ایک ہی علاقے اور شہر میں رہنا مقید کیا ہے؛ اس لیے اگر دونوں میں سے کوئی ایک سفر پر جائے تو باپ زیادہ حقدار ہے، یہ شارع کی جانب سے مقرر کردہ نہیں، بلکہ بچے کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے، کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ رہے۔

ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”باپ کے سفر کرنے کی بنا پر ماں کا

حق پرورش ساقط ہونے کی کوئی دلیل اور نص نہیں، اگر کسی نے کہا ہے تو یہ باطل ہے، ہم نے جو آیات اور احادیث پیش کی ہیں ان کی تخصیص ہے، اور فاسد رائے کے ساتھ دونوں کی مخالفت بھی ہے اور چھوٹے بچوں کے متعلق سوء نظر ہے، اور سفر و پڑاؤ کے ساتھ انہیں ضرر و نقصان دینا، اور بچے اور اس کی ماں سے دور کرنا ہے؛ بلاشک و شبہ یہ ایسا ظلم ہے جو کسی پر مخفی نہیں ”انتہی

دیکھیں: اللعلیٰ ابن حزم (146/10)

۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ

کہتے ہیں:

”طلاق یافتہ شخص کے بچے کا اگر

متعین ہو جائے کہ وہ ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے علاقے اور شہر میں ہو باپ ایک شہر میں اور ماں دوسرے شہر میں بستی ہو تو عام علماء مثلاً قاضی شری حاور امام مالک وشافعی اور امام احمد وغیرہ کے ہاں بچے کا باپ زیادہ حقدار ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی حتیٰ کہ علماء کا کہنا ہے کہ :

اگر باپ کہیں دور منتقل ہونے کے لیے

سفر کرنا چاہے اور ضرر مقصود نہ ہو تو وہ بچے کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ بچے کا باپ کے ساتھ رہنا زیادہ صحیح اور اسی میں مصلحت ہے کیونکہ اس سے نسب کی حفاظت ہوگی اور مکمل تربیت و تعلیم اور ادب بھی، اور اس لیے کہ ماں کے ساتھ رہنے میں بچے کی مصلحت ضائع ہوتی ہے ” انتہی

دیکھیں : جامع المسائل (422/4).

اس بنا پر جب بچے کی کوئی شرعی مصلحت

متعین ہو جائے کہ اس کا کسی ایک کے ساتھ رہنا ہی صحیح ہے تو اسے جس میں مصلحت ہو اس کے سپرد کر دیا جائیگا چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو.

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ

کہتے ہیں :

”والدین میں سے جسے بھی ہم مقدم

کرینگے تو یہ بچی کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائیگا، جس سے خرابی دور ہو، لیکن اگر دونوں میں سے جس کے ساتھ رہنے میں خرابی پیدا ہوتی ہو اور بچی میں فساد پیدا ہوتا نظر آئے تو بلاشک و شبہ دوسرے کی پرورش میں دینا بہتر اور اولیٰ ہوگا.

حتیٰ کہ جب چھوٹا بچہ ماں یا باپ میں

سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے تو ہم اسے بھی بچے کی مصلحت کی خاطر مقدم کرتے ہیں کہ اس سے فساد و خرابی دور ہو، فرض کریں اگر باپ زیادہ قریب ہے لیکن وہ بچے کا خیال نہیں رکھ سکتا بلکہ ماں اس کی دیکھ بھال زیادہ کریگی تو ہم بچے کے اختیار کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ بچہ تو عقلاً کمزور ہے، اس لیے وہ دونوں میں سے کسی ایک کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ وہ اس کے خواہش کے موافق ہے، اور بچے کا مقصد فسق و فسج اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور اپنے لیے فائدہ مند چیز دین اور علم اور ادب و

صنعت و حرفت وغیرہ سے دور بھاگنا ہے، اس لیے وہ اپنی خواہش کے مطابق والد کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن دوسرا اس کی اصلاح اور تربیت کریگا، جب بھی ایسی صورت حال بن جائے تو بچے کی حالت کو خراب کرنے والے شخص کے سپرد نہیں کیا جائیگا”

اسی لیے امام شافعی اور امام احمد

رحمہم اللہ کے اصحاب کا کہنا ہے :

”کسی فاسق و فاجر کے لیے حق پرورش

نہیں ہے، اور حسن بن یحییٰ کا بھی یہی کہنا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے :

”ہر وہ شخص جسے حق پرورش حاصل ہو

چاہے وہ باپ سے یا کوئی رشتہ دار یا عصبہ لیکن وہ پرورش کرنے کا اہل نہیں اور نہ ہی جائے امن ہے اور نہ خود مامون ہے تو اسے حق پرورش حاصل نہیں ہوگا، بلکہ حق پرورش اسے حاصل ہوگا جس میں یہ اوصاف ہوں چاہے وہ دور کا رشتہ دار ہی ہو، کیونکہ اس میں بچے کی مصلحت مد نظر رکھی جائیگی کہ کون شخص بچے کے لیے زیادہ فائدہ مند اور بہتر ہے، کیونکہ کسی باپ ایسے ہیں جو اپنے بیٹے کو ہی ضائع کر بیٹھے ہیں۔

ایسے ہی علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ

الفاظ قاضی ابو یعلیٰ کے ہیں بچے کو والدین میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اس

صورت میں موقع دیا جائیگا جب والدین اس کے بارہ میں مامون ہوں، اور یہ معلوم ہو کہ

اگر کسی ایک کے بھی پاس ہو تو اسے کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو اس کی

دیکھ بھال نہیں کرتا اور اسے کھیل کود میں لگے رہنا دیتا ہے اس کے متعلق بچے کا

اختیار نہیں رہنے دیا جائیگا”

حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ :

”جب وہ سات برس کی عمر کے ہوں تو انہیں

نماز کا حکم دو، اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کی سزا دو، اور

ان کے بستر علیحدہ کر دو”

لہذا جب والدین میں سے کوئی ایک اسے

اس کا حکم دیتا ہو اور دوسرا نہیں دیتا تو بچہ اس کے پاس رہے گا جو اسے نماز ادا کرنے

کا حکم دیتا ہے دوسرے کے پاس نہیں؛ کیونکہ اسے یہ حکم دینے والا بچے کی تربیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوگا، لیکن دوسرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔

اس لیے بچے کی پرورش کے سلسلہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے پر مقدم نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اگر والدین میں سے ایک اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتا اور دوسرا پابندی نہیں کرتا یا پھر ایک واجب پر عمل کرتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ حرام فعل کا مرتکب ہوتا ہے تو واجب پر عمل کرنے والے کو مقدم کیا جائیگا چاہے بچے نے دوسرے کو بھی اختیار کیوں نہ کیا ہو، بلکہ اس نافرمان تو کسی بھی حال میں اس بچے کا ولی ہی نہیں بن سکتا۔

کیونکہ جو کوئی بھی بچے کی ولایت میں واجب پر عمل نہیں کرتا تو اسے بچے پر ولایت ہی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ یا تو اس کی ولایت ختم کر کے اس کے قائم مقام کو ولی بنا دیا جائیگا، یا پھر اس کے ساتھ واجب پر عمل کرنے والے کو ملا دیا جائیگا۔

چنانچہ جب والدین میں سے کسی ایک ساتھ اس کے حصول کی بنا اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری حاصل ہوتی ہو تو بچہ اس کے ساتھ ملا دیا جائیگا، اور دوسرے کے ساتھ حصول سے اطاعت حاصل نہ ہوتی ہو تو پہلے کو مقدم کیا جائیگا۔

یہ حق وراثت کی جنس سے نہیں کہ یہ بھی رشتہ داری و نکاح اور ولاء سے حاصل ہوتا ہو، اگرچہ وارث حاضر اور عاجز ہو، بلکہ یہ تو ولایت کی جنس سے تعلق رکھتا ہے جو کہ نکاح و مال کی ولایت ہے جس میں واجب پر عمل کرنے کی حسب امکان قدرت پائی جاتی ہو۔

فرض کریں اگر بچے کے باپ نے دوسری شادی کر لی یعنی بچے کی ماں کی سوکن لے آیا اور بچے کو ماں کی سوکن کے پاس چھوڑے گا جو بچے کی مصلحت پر مد نظر نہیں رکھے گی بلکہ بچے کو تکلیف اور نقصان دے گی یا پھر مصلحت پوری کرنے میں کوتاہی کرے گی، لیکن اس کے مقابلہ میں بچے کی ماں بچے کی مصلحت

پوری کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو تکلیف بھی نہیں دیگی تو یہاں قطعی طور پر حق پرورش بچے کی ماں کو حاصل ہوگا، بالفرض اگر اختیار مشروع ہو اور وہ ماں کو اختیار کر لے، تو پھر اگر ایس نہ ہو تو کیا ہوگا؟

یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شارع سے کوئی ایسی نص نہیں ملتی جو والدین میں سے کسی ایک کو مطلقاً مقدم کرنے کی دلیل بنتی ہو، اور نہ ہی مطلقاً والدین میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے۔

علماء اس پر متفق ہیں کہ کسی ایک کو مطلقاً متعین نہیں کیا جائیگا، بلکہ کوتاہی اور عداوت و فساد و خرابی و ضرر کی صورت میں نیکی صلہ رحمی اور عدل و احسان اور واجب پر عمل کرنے والے کو مقدم کیا جائیگا” انتہی

دیکھیں: جامع المسائل (420/3)

(421) مزید آپ ابن المفلح کی کتاب الفروع (345/9) اور ابن قیم کی زاد المعاد (424/5) کا مطالعہ کریں۔

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”اس مسئلہ میں صحیح بات یہی ہے کہ:

ہمیں جب معلوم ہو کہ بچہ اپنی ماں کا محتاج ہے، یا پھر یہ معلوم ہو جائے کہ باپ بچے کو نقصان و ضرر دے گا تو بلاشک و شبہ اس صورت میں باپ کی بجائے ماں حق پرورش کی زیادہ حقدار ہے؛ کیونکہ بچے کا اپنی ماں کے ساتھ رہنا اور ماں کا دودھ پینا کسی دوسرے کے دودھ پینے سے بہتر ہے، اور پرورش کے متعلق یہ مد نظر رکھا جائیگا کہ بچے کے لیے کون زیادہ بہتر ہے” انتہی

دیکھیں: الشرح الممتع (542/13).

حاصل یہ ہوا کہ:

باپ کا حق پرورش مقید ہے کہ اگر بچے یا اس کی ماں کو ضرر و نقصان دینے کا قصد نہ ہو تو پھر باپ کو حق پرورش دیا جائیگا، لیکن اگر بچے کا اپنی ماں کے ساتھ رہنے میں شرعی مصلحت ہو تو ماں کے ساتھ رہے گا۔

واللہ اعلم.